

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

Centre for Distance and Online Education

Assignment No. 2 (Unit 1 to 12)

Programme: B.Com. 4th Semester

Paper: Cost Accounting

Max Marks:10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2 = 5)

نوٹ۔ کسی دو سوالوں کے جواب دیں۔

1۔ ذیل کے تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسط (Simple Average Method) طریقہ پر اسٹوریج تیار کیجئے۔

Issued اجرائی		Received حاصل			
مقدار	تاریخ	کل قیمت	قیمت فی اکائی	مقدار	تاریخ
	8 جنوری 2022	3000	10	300	1 جنوری 2022
200	8	7200	12	600	4
300	15	7000	14	500	10
400	20	4800	16	300	18

2۔ ذیل کے تفصیلات کی مدد سے پہلے جانے والے (LIFO) طریقہ کے تحت اسٹوریج تیار کیجئے۔

اجرائی		Received حاصلات		
مقدار	تاریخ	قیمت فی اکائی	مقدار	تاریخ
700	2022 جنوری 7	20.00	600	2022 جنوری 1
600	17	21.00	800	5
700	21	20.00	700	9
300	26	22.00	500	15
		23.00	300	18
		24.00	400	25

3- اجرت (Wage) کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔

4- لاگت کھاتے اور مالیاتی کھاتوں کے درمیان امتیاز کیجئے۔

حصہ دوم

(5 x 1 = 5)

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5- ذیل کے تفصیلات کی مدد سے پہلے آئے پہلے جانے کے طریقے پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔

اجرائی		Received حاصلات		تاریخ
Quantity مقدار	تاریخ	Rate شرح	Quantity مقدار	
200	4 فروری 2022	6.00	400	1 جنوری 2022
400	10	7.00	600	3
500	13	8.00	900	8
500	19	7.50	400	12
500	20	9.00	600	15
		9.50	500	18

6- ذیل میں پیداوار کے متعلق تفصیلات دئے گئے ہیں۔

اکائیاں فی ہفتہ	100	= Normal Consumption	صرف کی عام سطح
اکائیاں فی ہفتہ	50	= Minimum Usage	صرف کی اقل ترین سطح
اکائیاں فی ہفتہ	150	= Maximum Usage	صرف کی اعظم ترین سطح
اکائیاں فی ہفتہ	600	= Re-order Quantity	دوبارہ آرڈر کی مقدار
ہفتے	6 تا 4	= Re-order Period	دوبارہ آرڈر کی مدت

ذیل کو محسوب کیجئے: (i) Re-ordering Level (ii) Minimum Stock Level

(iii) Maximum Stock Level (iv) Average Stock Level

7- مزدوروں کی نقل پذیری کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اس کے اسباب اور اثرات کو بیان کیجئے۔

Assignment No. 3 (Unit 13 to 24)

Programme: B.Com. 4th Semester

Paper: Cost Accounting

Max Marks:10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2 = 5)

نوٹ: کسی دو سوالوں کے جواب دیجئے

- 1- اجرت کی ادائیگی کے مختلف طریقوں کو بیان کیجئے۔
- 2- اکائی لاگت کی تعریف کرتے ہوئے اس کے استعمالات کو بیان کیجئے۔
- 3- تخمینہ لاگت تیار کیجئے۔ خام مال 30,000 روپے، اجرت 12,000 روپے، فیٹری کے مصارف 8,000 روپے، انتظامی بالائی مصارف۔ ورک کاسٹ کا 30%، فروخت و تنظیمی اخراجات فی اکائی 1 روپیہ، قیمت فروخت 10 روپے فی اکائی، دوران سال 18,000 اکائیاں تیار کی گئی ہیں۔
- 4- مشینی گھنٹہ کی تحسیب کیجئے: مشین کی قیمت 38,400 روپے، مشین کی باقی ماندہ قیمت 2400 روپے، مرمت پر ماہانہ خرچ 300 روپے، اسٹانڈنگ اخراجات ماہانہ 100 روپے، مشین کی کارکرد مدت 20 ہزار گھنٹے ماہانہ، مشین کے چالو گھنٹے 232، مشین کا برقی استعمال 10 یونٹ فی گھنٹہ، بحساب 0.48 پیسہ فی یونٹ۔

حصہ دوم

(5x1=5)

نوٹ کسی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

- 5- بالائی مصارف کی تعریف کرتے ہوئے اس کے بٹورہ کی بنیادوں کی وضاحت کیجئے۔
- 6- ذیل کی تفصیلات کی مدد سے ٹھیکہ کھاتہ تیار کیجئے۔
- ٹھیکہ قیمت = 15,00,000 روپے، خام مال 2,45,000 روپے، مزدوری 3,50,000 روپے، مشینری 60,000 روپے، بالائی مصارف 28,000 روپے، دوران سال حاصل نقدی 5,00,000 روپے جو مصدقہ کام کا 80% کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاتھ میں اختتامی خام مال 40,000 روپے اور مشینری پر 20% فرسودگی عاید کیجئے۔
- 7- درجہ ذیل کی مدد سے پراسس اکاؤنٹ تیار کیجئے۔ پراسیس A میں فی اکائی 5 روپے کے حساب سے خام مال کی 10,000 اکائیاں استعمال کی گئی ہیں۔

	A	B	C
خام مال	5000	7500	2500
اجرتیں	25000	40000	32500
راست اخراجات	5250	5940	10,045
پیداوار	9500 یونٹ	9100 یونٹ	8100 یونٹ
معمولی نقصان کی شرح	3%	5%	8%
قیمت فروخت فی اکائی معمولی نقصان	1 روپے	2 روپے	5 روپے